

## PPRA کے تحت حقوق کا نوٹیفیکیشن

طالبعلم/طالبہ کے حقوق کے تحفظ میں ترامیم والدین اور 18 سال یا اس سے بڑی عمر کے طلباء یا آزاد نابالغ ("اہل طلباء") کو سکول ڈسٹرکٹ کے کیے گئے سروے، انعقاد اور مارکیٹنگ مقاصد کے لیے معلومات کے استعمال اور خاص جسمانی معائنوں کے لیے مخصوص حقوق دیتا ہے۔ ان میں درج ذیل کا حق شامل ہے:

1. "محفوظ معلومات" کے سلسلے میں وفاق کے مالی تعاون کے سروے کی منظوری۔ طالبعلم/طالبہ کی درج ذیل امور سے متعلق معلومات کی فراہمی سے قبل طالبعلم/طالبہ کے والدین یا از خود فیصلے کرنے کے مجاز اہل طالبعلم/طالبہ کو تحریری رضا مندی دینی ہو گی:

- سیاسی وابستگیوں؛
- طالبعلم/طالبہ یا طالبعلم/طالبہ کے خاندان کے ذہنی یا نفسیاتی مسائل؛ جنسی طرز عمل یا رویہ؛
- غیر قانونی، سماج مخالف، خود کو جرم میں مبتلا کرنے والا یا ذلیل کرنے والا رویہ؛ طالبعلم/طالبہ کے گھرانے کے افراد کی حساس نوعیت کی تشخیص؛
- قانون کے تحت تسلیم شدہ مراعات یافتہ وکلا، ڈاکٹر اور پادریوں یا انہی جیسوں کے ساتھ تعلقات؛
- طالبعلم/طالبہ کے یا طالبعلم/طالبہ کے والدین کے مذہبی رسوم، وابستگیوں یا عقائد؛ یا پروگرام کی اہلیت کے تعین کے لیے قانون کے تحت ضروری آمدنی کے علاوہ دوسری آمدنی۔

ان میں سے کسی بھی پوائنٹ سے تعلق رکھنے والا سروے "محفوظ معلومات کا سروے" کہلاتا ہے۔

2. مخصوص سروے اور امتحانات سے آپٹ آؤٹ۔ والدین اور اہل طلباء کو درج ذیل سرگرمیوں میں سے کسی کی بھی اطلاع موصول ہو گی اور انہیں ان سے دست کش ہونے کا حق حاصل ہو گا:

- معلومات کی مارکیٹنگ یا فروخت یا بصورت دیگر دوسروں کو اسے تقسیم کرنے کے مقاصد کے تحت طلباء سے حاصل کردہ ذاتی معلومات اکٹھا کرنے، اس کا افشا اور اسے استعمال کرنے پر مشتمل سرگرمیاں؛
- فنڈنگ سے قطع نظر، کوئی بھی تحفظ یافتہ معلومات کا سروے؛ اور
  - کوئی بھی غیر ہنگامی، جارح جسمانی معائنہ یا سکریننگ جو حاضری کے لیے شرط کے بطور مطلوب ہو، جس کا انتظام اسکول یا اس کے ایجنٹ نے کیا ہو یا اسکول نے نظام الاوقات طے کیا ہو اور جو کسی طالب علم یا کسی دوسرے طالب علم کی فوری صحت اور تحفظ کی حفاظت کے لیے ضروری نہ ہو، سوائے سماعت، بصارت یا سکول ایسیس کی سکریننگ کے یا ریاستی قانون کے تحت مجاز یا مطلوب کوئی بھی جسمانی معائنہ یا سکریننگ۔

3. مخصوص مواد کی جانچ پڑتال۔ والدین اور اہل طلباء کو ضلع کے استعمال کرنے سے پہلے درخواست کرنے پر درج ذیل کا معائنہ کرنے کا حق حاصل ہے:

- طلباء کے تحفظ یافتہ معلومات کے سروے (جن میں سروے کے سلسلے میں استعمال ہونے والے تعلیمی مواد شامل ہیں)؛

- مندرجہ بالا مارکیٹنگ، فروخت یا دوسرے تقسیمی مقاصد کے لیے طلباء سے ذاتی معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دستاویزات؛ اور
- تعلیمی نصاب کے حصے کے طور پر استعمال ہونے والا تعلیمی مواد۔

4. ڈسٹرکٹ کی پالیسی کی اطلاع وصول کریں۔ ڈسٹرکٹ کی پالیسی کی اطلاع وصول کریں۔ پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکولز نے والدین کی مشاورت سے ان حقوق کے سلسلے میں پالیسی تیار کی ہے اور تحفظ یافتہ معلومات کے سروے اور مارکیٹنگ، فروخت یا تقسیم سے متعلق دیگر مقاصد کے لیے ذاتی معلومات کی جمع کاری، افشا یا استعمال کے انتظام میں طلباء کی رازداری کے تحفظ کے انتظامات کئے ہیں۔ پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکولز والدین اور اہل طلباء کو کم از کم ہر تعلیمی سال کے آغاز پر سال میں ایک دفعہ اور کوئی بھی قابل قدر تبدیلیاں ہونے کے بعد اس پالیسی کی براہ راست اطلاع دیں گے۔

5. ان ضوابط کے تحت طے شدہ سروے درج ذیل تاریخوں پر دیئے جائیں گے:

تاریخ	احاطہ شدہ سروے
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____